

استعمال کریں۔ اگر ماحول کی تبدیلی موجودہ رفتار سے جاری رہی تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ و برپا شدہ ماحولیاتی نظام ہی باقی رہ جائے گا۔

۹

قدرت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور متاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام انگل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسٹنی کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں۔ عطاۓ خطاب کے وقت بھی اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں تکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ کوئی ہو کہیں کا ہو، ان سے چھوٹیں نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بارہتا تھا اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انھیں چین نہ آتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بارہمنت تھے۔

۱۰

زبان کا صحیح استعمال اور محاوروں کے برتنے کا سلیقہ ان کا خاندانی وصف ہے جو اپنی پوری رچاوت اور ایک نئے توازن کے ساتھ ان کی نشر میں آگیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی نشر میں دلی کا وہ سارا بلکمپن موجود ہے جو الگ الگ ڈپٹی نزیر احمد اور محمد حسین آزاد کے ہاں ملتا ہے۔ آزاد کی نشر میں استغاروں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ وہ ایک بات کوئی کوئی استغاروں کے ذریعے ادا کرتے ہیں اور ان کی عبارت رکھنے اور تجھیں کے زور سے شوخ اور شگفتہ ہو جاتی ہے۔ نزیر احمد محاوروں کو خوب خوب استعمال کرتے ہیں۔ شاہد کے ہاں نہ استغاروں کی کثرت ہے نہ محاوروں کی لیکن اس کے باوجود ان دونوں صاحب طرز ادیبوں کی نشر کے امکانات جس نقطے پر ملتے ہیں وہاں سے شاہد احمد دہلوی کی نشر پیدا ہوتی ہے۔



مکتوب نگاری

نشری تحریروں میں خط ایک اہم صفت ہے۔ خط کو ”آدمی ملاقات“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خط کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال احوال جاننے کی ایک عمده صورت بھی ہے۔ خط مکتوب نگار کے دلی جذبات کا عکاس ہے۔ غالب نے مر اسلے کو مکالمہ بنادیا اور مکتوب نگاری میں کئی جگہ تین پیدا کیں۔ ماضی میں مکتوب نگاری ہماری تہذیب کا خوب صورت اظہار یہ تھا۔ اگرچہ موجودہ دور میں سائنسی ترقی نے انسانوں کے درمیان فاصلہ کم کر دیے ہیں اور انتہنیت کی سہولت نے اسی میں سمیت پیغام رسانی کے بے شمار جدید طریقے متعارف کرادیے ہیں تاہم مکتوب نگاری کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ مکتوب نگاری کے فن میں مہارت حاصل کرنا ہماری عملی اور معاشرتی ضروریات کا تقاضا ہے۔ خط لکھنے والے کو عربی زبان میں مکتوب نگار اور جس شخص کو خط لکھا جائے اسے مکتوب لیہ کہا جاتا ہے۔

خط کو عموماً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: (الف) رسمی خط

رسمی خط: رسمی خطوط وہ خط ہیں جو کسی اجنبی یا صاحب اختیار کو لکھے جاتے ہیں۔ ان خطوط میں معانگاری یا مقصدیت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سرکاری اور کاروباری نویست کے خطوط کا شاربھی رسمی خطوط میں ہوتا ہے۔

غیررسمی خط: غیررسمی خطوط اپنے والدین، عزیزوں اور دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ایسے خطوط میں جذبات اور خیالات کے بے سانتہ اظہار سے آہمی ملاقات کا سامان بندھ جاتا ہے۔

خطوط لکھنے کے لیے چند ہدایات

- ممکن ہو تو خط کے آغاز میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھنے کا اہتمام کریں۔
- مکتوب الیہ کے مقام، مرتبہ اور عمر کو مدنظر رکھ کر خط کی عبارت تحریر کی جائے۔
- خط زیادہ تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا لہذا مختصر اور جامع انداز اختیار کیا جائے۔
- خط لکھنے کا مقام اور تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے۔
- القاب و آداب، علامت ندائیں/ فائیسے کے ساتھ صفحے کے درمیان میں لکھے جاتے ہیں۔
- القاب و آداب کے بعد نفس مضمون تحریر میں لا یا جاتا ہے۔
- نفس مضمون کا اختتم دعا، اظہارِ تشکر یا جذبہ خیر سگالی سے کیا جاتا ہے۔
- نفس مضمون کے بعد صفحے کے باائیں جانب مکتوب نگار کا نام لکھا جاتا ہے۔
- امتحان میں جوابی کا پی پر نام اور پتا لکھنے کی ممانعت کے سبب ان کی جگہ حروفِ ابجد یارول نہ لکھے جاتے ہیں۔
- بے تکلفی، بے سانگھی اور سادگی اچھے خط کی خصوصیات ہیں۔



خط کے اجزاء

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| (۳) القاب | (۲) اندر ارجح تاریخ | (۱) مقام روائی |
| (۶) اختیاری کلمات | (۵) نفس مضمون | (۴) آداب و تسلیمات |
| (۸) مکتوب الیہ کا نام اور پتا | (۷) مکتوب نگار کا نام اور پتا | |



نمونے کے چند خطوط

① دوست کے نام

(امتحان میں کامیابی کا ذکر کرنا)

امتحانی مرکز [خط لکھنے والے کا پتا]

۱۵ اگسٹ ۲۰۱۴ء [تاریخ، مہینہ اور سال میں سوئی]

فہرست مضمون

پیارے دوست کا شف! [آداب و ادب]

السلام علیکم! میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی گیارہویں جماعت کے سالانہ امتحان میں کالج بھر میں اول پوزیشن آئی ہے۔ میری طرف سے دلی مبارک باد قبول فرمائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی محنت، آپ کے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں سے رنگ لے آئی ہے۔ یقین کریں کہ مجھ سمتیت تمام دوست احباب اور عزیز وقارب آپ کی اس عظیم کامیابی سے بہت خوش ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم میٹرک میں اکٹھ پڑھتے تھے، اس وقت بھی آپ بہت محنتی تھے۔ ہمیں آپ کی شبانہ روز محنت پر رشک آتا تھا۔ تمام اساتذہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس وقت بھی آپ نے میٹرک کے امتحان میں ضلع کی سطح پر بھر میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔

دوست! مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ نے مسلسل محنت کو پاشاعار بنایا ہوا ہے اور میری دعا ہے کہ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں۔ ہم سب دوست بھی ان شاء اللہ آپ کی طرح محنت کریں گے اور امتیازی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

میری طرف سے ایک بار پھر مبارک باد قبول کریں، والسلام! [حروف آخر (سلام و دعا)]

اختتم

آپ کا مختصر

نام و پتا: الف، ب، ج [خط لکھنے والے کا نام]



② چھوٹے بھائی کے نام

(ہم انصابی سرگرمیوں میں بھر پور حصہ لینے کے لیے)

امتحانی مرکز

۲۰ ربیعی ۲۰۱۴ء

پیارے بھائی!

السلام علیکم! کل آپ کا خط موصول ہوا۔ خوشخبری پڑھ کر میرا دل خوش ہوا اور سرخر سے بلند ہو گیا۔ اس خط میں آپ نے اپنی

جماعت میں اپنے اول آنے کی نوید سنائی ہے۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی اور یقین تھا کہ آپ میری امیدوں پر ہمیشہ پورا اتریں گے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے!

بھائی! آپ کی نصابی کا رکرداری تو ہمیشہ ہی قابل تاثر رہی ہے اور تمام اساتذہ آپ سے مطمئن رہے ہیں مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیں۔ آپ کا اس سے جسم تدرست و توانا اور چاق چوبندر ہے گا۔ ایک صحیت مند جسم میں ہی صحیت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے جسم کو تدرست و توانا کھاتا ہے تو یقیناً اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جب کہ جسم کی تدرستی کھلیوں سے ممکن ہے۔ آپ کے کالج میں ہرسال کھلیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ان میں بھرپور شرکت کیا کریں۔ اس کے علاوہ تحریری و تقریری ادبی مقابلہ جات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان تمام سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں اور محض ایک کتابی کیڑا ہبہ کرنے رہ جائیں۔ میری نصیحت پر عمل کرنے سے آپ چست و توانارہیں گے اور شخصیت میں اعتماد پیدا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعتماد کسی شخصیت کے اوصاف میں سب سے بڑی صفت ہے۔ ہر وقت پڑھتے لکھتے رہنے سے مزاج خشک ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ اپنی شبائی روز محنت سے بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں مگر بڑا آدمی ہمہ اوصاف کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نصابی اور ہم نصابی دونوں طرح کی سرگرمیاں اپنائیں۔ ایک مخصوص وقت مقرر کرنے کی صورت میں ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا جاسکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان ہدایات پر عمل کر کے دونوں میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لواہا منوا نکیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام!

آپ کی بارگ
الف، ب، ج



۳ دوست کے نام (زندگی کے نصب اعین کے متعلق)

امتحانی مرکز

۱۸ مارچ ۲۰۲۴ء

پیارے دوست ماجد!

السلام علیکم! کل آپ کا خط موصول ہوا بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد بھی مجھے یاد رکھا۔ آپ نے مجھ سے میرے نصب اعین کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب تفصیلًا دوں۔ ماجد! جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے معلم بننے کا بہت شوق تھا اور میں ہمیشہ سے آرزو رکھتا تھا کہ ایک معلم کی حیثیت سے ملک و قوم کی خدمت کروں۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان کی دلچسپی جس پیشے میں زیادہ ہو وہ اسی پیشے سے انصاف کر سکتا ہے۔ میری اس پیشے میں بڑی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے زندگی کے تمام شعبوں پر فضیلت رکھنے کے باوجود معلم ہونے پر فخر کیا۔ میں سوچتا ہوں

کہ معلم بن کرجب میری طرف سے میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے علم میں اضافہ ہو گا تو مجھے بے پناہ ثواب ہو گا اور یوں سنت پر عمل پیرا ہونا میری خوش نصیبی ہو گی۔

پیارے دوست! میرے اس مقصدِ حیات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے والدین کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک گھر میں ایک ادبی، تعلیمی اور تدریسی ماحول دیکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے حق میں لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنے نصب اعین کے مطابق زندگی بسر کر سکوں۔ آپ کے تمام اہل خانہ کو میری طرف سے سلام!

آپ کا دوست

الف، ب، ج



۷ چچا کے نام (تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے)

امتحانی مرکز

۲۵ نومبر ۲۰۱۴ء

پیارے چچا جان!

السلام علیکم! کل آپ کا پیار بھرا خط اور میرا تحفہ موصول ہوا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری سالگرہ کا تحفہ خریدنا نہیں بھولیں گے۔ میرے اس لیتھن کے پیچھے آپ کی مجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہ تھا کہ میرا تحفہ میری خواہش کے عین مطابق ہو گا، اس قدر بیش قیمت ہو گا اور اتنا خوب صورت ہو گا۔

چچا جان! آپ نے مجھے گھڑی کا تحفہ دے کر تو جیسے مجھے خرید ہی لیا ہے۔ چچ پوچھیے تو میں نے ایک ہفتہ پہلے ایسی ہی گھڑی ایک بڑی دکان پر دیکھی تھی مگر اتنی مہنگی تھی کہ میں ضرورت کے باوجود اسے خریدنے سکی اور حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے امتحان میں ابھی چند روز باقی ہیں۔ میں روزانہ اس گھڑی کو کلاں پر سجا کر امتحان دینے جایا کروں گی۔ ان شاء اللہ اس کی بدولت پورے وقت کے حساب سے پر چھل کیا کروں گی اور اپنے تمام کاموں کو وقت پر بخوبی انجام دیا کروں گی۔ یہ گھڑی محض ایک تحفہ ہی نہیں ہے بلکہ وقت کی پابندی کا ایک درس بھی ہے۔ یہ اس قدر جاذب نظر ہے کہ میرے تمام ملبوسات کے ساتھ نچ گی۔ میں نے جب یہ گھڑی اپنی سہیلیوں کو دکھائی تو انھوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور آپ کا تھہ دل سے شکریہ ادا کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا کہ آپ میری مسکراتھوں کا باعث بنے۔ میں آپ کے دیے گئے تمام تھائے کی طرح اسے بھی سنبحال کر رکھوں گی اور اسے دیکھ دیکھ کر آپ کو دل سے دعا نہیں دیتی رہوں گی۔ چچ جان کو میرا اسلام!

آپ کی بھتیجی

الف، ب، ج

۵ والد صاحب کے نام

(تفریجی مقام کی سیر کا حال بیان کرنے کے لیے)

امتحانی مرکز

۰۹ نومبر ۲۰۱۴ء

پیارے ابوجان!

السلام علیکم! امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور گھر میں بھی سب لوگ اللہ کے فضل سے حفظ و امان میں ہوں گے۔ مجھے سیر سے واپس آئے دو دن ہو چکے ہیں۔ میں صحت کی خرابی اور تھکن کی وجہ سے خط لکھنے سے قاصر تھا، جس کے لیے معدتر خواہ ہوں۔ مری کے پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا ہمارے علاقوں سے مختلف ہوتی ہے۔ میرا جسم اس آب و ہوا کو برداشت نہ کر سکا جس کی وجہ سے مجھے زکام اور بخار نے آگھیرا۔ بہر حال میں نے واپس آتے ہیں دوالے لی اور کچھ دیر آرام کے بعد تدرست ہو گیا اور آپ کو خط لکھنا شروع کیا۔

میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کانج کی طرف سے ایک تفریجی مقام کی سیر کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تفریجی سیر کا مرکز مری کی وادی اور اس کا قرب و جوار طے پایا۔ ہمارے تمام اساتذہ نے مل کر سارا نظام الاوقات بنایا، بسوں کا انتظام کیا اور ۱۸ مئی کو صبح ۳:۰۹ بجے روائی کا وقت مقرر کیا۔ مقررہ تاریخ کو صبح ۶ بجے تک تمام طلباء کے کانج میں جمع ہو گئے اور صبح ۳:۰۹ بجے ہم سب سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر چار گھنٹے کا تھا۔ میں نے اور میرے تمام دوستوں نے خوب مزے کیے۔ راستے میں ایک مسجد کے سامنے نمازِ ظہراً کرنے کے لیے بس روکی گئی۔ ہم سب نے باوضو ہو کر نمازِ ادا کی۔ مسجد کے قریب ہی ایک ڈھاہا تھا۔ طلباء نے وہاں سے گرم پکوڑے، ہموسے اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں خریدیں اور ان سے لطف اندوز ہوئے۔ کچھ دیر کرنے کے بعد بس دوبارہ منزلِ مقصود کی طرف روانہ ہوئی اور دو اڑھائی گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم مری پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہمیں مری کی مال روڈ کی سیر کا موقع میسر آیا۔ مال روڈ کی دکانوں سے میں نے آپ کے اور اُمیٰ جان کے لیے خشک میوه جات کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں خریدیں جو میں گھر آتے ہوئے ساتھ لاؤں گا۔ مال روڈ کے بعد ہم نے مری کی معروف سڑکوں کی سیر کی۔ اس کے علاوہ ہم گھوڑا گلی، چھانگلگلی اور نتھیا گلی بھی گئے۔ یہاں کا دل کش ٹھنڈا موسم مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ مری میں ہمارا قیام مال روڈ کے کنارے ایک خوب صورت ہوٹل میں تھا۔ رات دیر تک سیاحوں کی وجہ سے چہل پہل کا سماں رہا۔ جب ہم سیر سپاٹ سے تھک گئے تو ہوٹل کا رخ کیا۔ ایک رات آرام کے لیے ہوٹل کے چند کمرے کرایے پر لیے گئے تھے۔ باقی دوستوں کی طرح میں بھی تھکاوٹ سے چوراپنے کرے میں جاتے ہی لیٹ گیا اور صبح کہیں جا کے میری آنکھ کھلی۔ تمام طلباء نے اپنے ساتھ آئے ہوئے اساتذہ کے ہمراہ ناشتا کیا۔ گیارہ بجے تک مزید سیر کا وقت مختص تھا۔ وقت مقرر پر تمام لوگ ہوٹل میں اکٹھے ہوئے اور اپنا پناہ سامان باندھ کر واپسی کے لیے دوبارہ بس سوار ہو گئے۔ اس سفر میں ہمیں اپنے اساتذہ کی قربت بھی نصیب رہی اور تفریح کا موقع بھی میسر آیا۔ مجھے یہ تفریجی دورہ ہمیشہ یاد رہے گا۔

آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے چھوٹے بھائی کو پیار اور اُمیٰ جان کو سلام!

آپ کا بیٹا

الف، ب، ج

۶ دوست کے نام

(دوست کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے)

امتحانی مرکز

۱۱ فروری ۲۰۲۴ء

پیارے علی احمد!

السلام علیکم!

کل آپ کا خط موصول ہوا جسے پڑھ کر آپ کی والدہ کی وفات کی افسوس ناک خبر کا پتا چلا، اِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ^ط
عزیز دوست! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔“ یہ دنیا فانی ہے۔ جو یہاں آیا، اُس کا اپنے رب کے پاس جانا
اٹل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ ، کل ہماری باری ہے
لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری پوری زندگی وابستہ ہوتی ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے بغیر جی
نہیں سکتے۔ ماں ایک ایسا ہی سچا اور کھرا رشتہ ہے جس کی دعائیں ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہوتی ہیں:

کامیابی اس لیے بچھتی ہے میرے پاؤں میں کامیابی کی دعائیں مانگتی رہتی ہے ماں
مگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کو کبھی کسی صورت جھٹکا نہیں سکتے۔ ہر مخلوق کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ کر
جانا ہے۔ ماں یعنی کبھی ایک دن داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ آپ کی اگئی ایک نیک اور پارساختاون تھیں۔ انہوں نے ہم تمام دوستوں پر
ہمیشہ شفقت فرمائی اور ہمیں ہماری ماوں جیسا ہی پیار دیا۔ وہ نہایت پر ہیزگار اور سادگی پسند خاتون تھیں۔ ایک دنیا ان کے حسنِ اخلاق کی
مثال دیتی ہے۔ ایسی نیک ہستیوں کا ٹھکانا ہمیشہ جنت میں ہوتا ہے۔ جانے والے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے
ہیں لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی شکوہ کنان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضا مند ہونا چاہیے۔ ان کے لیے
دعائے مغفرت کیا کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں۔ یاد رکھیں! اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلد از جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور آپ کو
صبر جیل عطا فرمائے، آمین!

شریک غم

الف، ب، ج



۴ والد کے نام (ہائل کی زندگی کے بارے میں)

امتحانی مرکز
کیم رجنوری ۲۰ء

پیارے ابا جان!
السلام علیکم!

اُمید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ روز قبل میں نے آپ کو مطلع کیا تھا کہ میں خیریت سے ہائل پہنچ گیا ہوں۔ اس کے جوابی خط میں آپ نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں آپ کو ہائل کی زندگی کے معمولات کے متعلق خط کے ذریعہ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ ابا جان! آپ بالکل بے فکر ہیں، میں یہاں بہت محفوظ ہوں۔ ہائل میرے کانج سے پانچ منٹ کی دوری پر ہے۔ ہائل میں تین انچارج مخصوص کیے گئے ہیں۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا ہے، اس میں میرے ساتھ دو اور ساتھی طلبہ بھی رہتے ہیں۔ ہائل کی فسیں میں کھانے پینے کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ کھانا معیاری ہے اور ہمیشہ وقت پر دیا جاتا ہے۔ رات کے وقت ہائل سے باہر جانے پر سخت پابندی ہے۔ باہر جانے کے لیے اجازت نامہ جمع کروایا جاتا ہے اور صرف ایک ہنگمی کی صورت میں ہی منظور کیا جاتا ہے۔ ہمارے آنے جانے پر کڑی نظر کھی جاتی ہے۔ ہائل کی انتظامیہ نے جو قواعد و ضوابط کی ایک کاپی ہم سب کو داخلے کے دوران میں دی تھی، ان تو اعد و ضوابط کے مطابق ہر طالب علم کو اپنا نامہ بدل بنانا پڑتا ہے۔ ہائل میں ابتدائی طبی امداد کی سہویات بھی میسر ہیں۔ اگرچہ یہاں ہمیں کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہم تمام دوست چوں کہ سارا دن اکٹھے رہتے ہیں اس لیے باہمی تعلقات مضبوط اور دوستی گھری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی ہے کہ ہائل گھر کی جگہ نہیں لے سکتا مگر ہمارے ہائل میں گھر جیسا ہی ماحول ہے۔ بس آپ کی اور اتنی جان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس مبینے کے آخر میں موسم بہار کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان شاء اللہ میں گھر کا چکر لگاؤں گا اور آپ کو ہائل اور علمی زندگی کے بارے میں مزید عرض کروں گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، گھر میں سب کو سلام!

آپ کا بیٹا

الف، ب، ج



دوست کے نام ۸
(امتحان میں ناکامی پر تسلی دینے کے لیے)

امتحانی مرکز

۳۰ جون ۲۰۱۴ء

پیاری سہیل!
السلام علیکم!

پچھلے ہفتے ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے گزٹ میں سالی اول کا رزلٹ دیکھنے کا موقع ملا۔ میں تمہارا نتیجہ دیکھ کر، بہت پریشان ہوئی کہ تم فیل ہو گئی ہو۔ اردو اور انگریزی کے مضامین میں تمہاری اتنی ناقص کارکردگی ہو گئی، یہ میرے قصور میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت دلکھوا کہ میری سہیلی جو اس قدر قابل اور ذہین تھی، آخر کیا ہوا کہ ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ میں بچپن سے تھیں جانتی ہوں کہ تم نے ہمیشہ محنت کی ہے اور ہر چیز قبول کیا ہے اور ہر طرح کی مشکل کا سامنا کیا ہے۔ یقین کرو اتنا دکھ شاید تمھیں بھی نہیں ہوا ہو گا جتنا اس صورتِ حال نے مجھے دکھی کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، شاعر نے ایسی ہی صورتِ حال کے پیش نظر کہا تھا:

شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق وہ طفیل کیا گرے گا جو گھننوں کے بل چلے

میں نے اپنے طور پر اس ناکامی کے اسباب کو جانے کی کوشش کی ہے اور اس نتیجے پر پیچھی ہوں یہ سب کرونا وبا کا کیا دھرا ہے۔ ساری دنیا اس مہلک وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ پاکستان میں بھی سکول اور کالج مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے اور جب تعلیمی عمل شروع ہوا تو طلبہ کے سامنے سماڑ سلپیس تھا۔ ان حالات کا سب سے زیادہ اثر تمہارے جیسی ذہین اور حساس طالب علم پر پڑا۔ سرف تمہارا ہی رزلٹ خراب نہیں تھا بلکہ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے نتائج مایوس کرن رہے۔

پیاری دوست! انسان ناکامیوں ہی سے سیکھتا ہے اور کامیابوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ یہ زندگی کی چھوٹی سی ناکامی ہے، بڑی کامیابیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے یقین کہ تم نے عزم سے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ کے امتحان میں بھی ہم سب کی امیدوں پر پورا اتر و گی۔

تم ذہین اور قابل ہو، اپنے جذبے کو ہمیشہ ایسے ہی قائم رکھنا تاکہ تم اپنی منزل پاسکو۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، والسلام!

تمہاری مخلص دوست
الف، ب، ج



۹ اخبار کے مدیر کے نام

(ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات اور دیگر مسائل پر اظہارِ خیال)

لاہور

۲۰ جون ۱۹۷۰ء

محترم افضل علوی صاحب، مدیر روزنامہ ”جنگ“، لاہور

السلام علیکم!

آپ کے ادارے سے شائع ہونے والے اخبار کے توسط سے میں اپنے ہم وطنوں کو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے اہم مسائل اور ان کے حل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ قارئین جانتے ہیں کہ آج کل ٹریفک حادثات عروج پر ہیں۔ روزانہ سیکڑوں افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈرائیورز اور عوام کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیز رفتاری، بسوں اور دیگنوں پر حد سے زیادہ سواریاں، زائد المیعاد اور غیر معیاری موٹگاڑیاں، ٹوٹی چھوٹی سڑکیں اور غیر تربیت یافتہ ڈرائیوروں کے سڑک پر آنے کی وجہ سے ہولناک حادثے جنم لیتے ہیں۔ آج کل کچھ نوجوان ون و ہیلنگ کرتے نظر آتے ہیں جس کے خطرناک نتائج روزانہ سنتے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی ایک اور بڑی وجہ سڑکوں پر جا بجائے ہوئے غیر معیاری خود ساختہ سپیڈ بریکر اور راستوں میں رکھی ہوئی بلا جواز رکاوٹیں بھی ہیں۔ ٹریفک کے اشاروں سے ناقصیت اور لاپرواٹی بھی حادثوں کا سبب بنتی ہے۔

حادثات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ پرنٹ اور سوچل میڈیا کے ذریعے سے عوام میں ٹریفک قوانین کا شعور بیدار کیا جائے۔ پولیس اور انتظامیہ ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرائے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے کم عمر بچوں کو موڑ سائکل یا گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں۔ ون و ہیلنگ کرنے والوں اور تیز رفتار گاڑیاں چلانے والوں کو سختی سے روکنا ہوگا۔ حکومتی سطح پر سڑکوں کی حالت کو بہتر بنانے، رکاوٹوں کو دور کرنے، غیر ضروری اور غیر قانونی بنائے گئے سپیڈ بریکر ختم کرنے اور بے ہنگم ٹریفک سے بچنے کے لیے تبادل راستوں کی ضرورت ہے۔ غیر تربیت یافتہ ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیونگ اسکول کا انتظام کرنا چاہیے اور لوگوں کی قیمتی زندگیوں کو بچانے میں کوئی کسر اٹھانیں رکھنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ زیرا کر اسکنگ اور ٹریفک کے اشاروں کا نظام مؤثر بنایا جائے۔

میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا کہ آپ میری گزارشات اپنے مؤقر قومی اخبار میں شائع کر دیں تاکہ بہتری کی صورت

سامنے آئے۔ والسلام مع الکرام!

خیر اندیش

نام و پتا: الف، ب، ج



۱۰ اخبار کے مدیر کے نام (ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کے متعلق)

لاہور

۲۰ اکتوبر ۱۴

محترم نظامی صاحب! مدیر روزنامہ "نوائے وقت" ، لاہور
السلام علیکم!

جناب! میں سالِ دوم کی طالب علم ہوں۔ آپ کے اخبار کے توسط سے میں ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے پر اعتماد بناتی ہیں۔ ادبی سرگرمیاں ہوں یا دیگر علاقائی اور میں الاقوامی کھیلوں کے مقابلے، ان سے طلبہ کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور اصلاحی تربیت ضرور ہوتی ہے۔ فونٹ لطفیم کے مقابلے طلبہ کی جمالیاتی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو تکھارنے کے ساتھ ساتھ انھیں نظم و ضبط کا پابند بناتے اور ان میں احساسِ مردودت بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام خصائص کے پیش نظر تمام تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کی شخصیت ہر لحاظ سے پروقار، باعتماد اور پرکشش نظر آئے۔ امید ہے کہ آپ میری تجوادیز کو اپنے اخبار کے صفحات میں جگہ دیں گے۔ والسلام!

مختصر

الف، ب، ج



مشقی خطوط کے موضوعات

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۔ اپنے دوست کو کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں | ۲۔ بڑے بھائی کو حادثہ دیکھنے کے حال کے بارے میں |
| ۳۔ اپنے استاد کو تعلیم و تربیت کے لیے شکرگزاری کرنے کے بارے میں | ۴۔ دوست کو شعر و ادب کی اہمیت کے بارے میں |
| ۵۔ اخبار کے مدیر کو بجلی کی بچت کے متعلق | ۶۔ اخبار کے مدیر کے نام، مہنگائی کے بارے میں |
| ۷۔ اخبار کے مدیر کو بڑھتے ہوئے سماجی مسائل کے بارے میں | ۸۔ چھوٹی بہن کو کمپیوٹر کی افادیت کے بارے میں |
| ۹۔ دوست کو اردو زبان کے پسندیدہ استاد کے بارے میں | ۱۰۔ دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے پر معدتر |
| ۱۱۔ والدہ صاحبہ کو ان کی بیمار پری کے لیے | ۱۲۔ دوست کے نام موسم بہار کی چھٹیاں کسی تفریگی مقام پر گزارنے کے لیے |